

THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED

006/Secy/AGM/PSX /2019-20
October 5, 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

SUB: NOTICE OF HOLDING OF 10th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find attached a copy of Notice of 10th Annual General Meeting of The Organic Meat Company Limited published in the Business Recorder and Daily Millat on 04-10-2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange for their information and necessary reference please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **The Organic Meat Company Limited**


(Abdul Quadir)
Company Secretary



Encl: a/a

Pages 8 - Price Rs 25

KH STOCKS

The Engine for
Stock Analysis

☎ LK: 111-010-210 EXT: 1428 & 1431
kubarnaw@khstocks.com
WWW.KHSTOCKS.COM

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

Founded by M.A. Zuberi

Registration No. NYC-27

APEX PRINTRY

Quality suppliers of Multi-coloured
Computer continuous Form-Fed
Stationery, Share Certificates &
Security Stationery Items.

Contact

Tel: 32251687 32258745 & 32250071x4

Volume LVI, No. 273

Internet: <http://www.brecorder.com>

Karachi, Sunday 4 October 2020, 16 Safer 1442



THE ORGANIC MEAT COMPANY LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting of the Organic Meat Company Limited (the "Company") will be held on Tuesday, October 27, 2020 at 11:00 am via video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 20% (Rs.2.00 per share) for the year ended June 30, 2020 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors for the year 2020-21 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

5. In compliance of the direction issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan under S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016, it is proposed that the following resolution be passed as and by way of a Special Resolution:
"Resolved that pursuant to compliance of S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016 and subject to the consent and approval of shareholders, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Accounts of the Company to its members through CD/DVD/USB; that the Board of Directors of the Company and the Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things that may be necessary or required to give effect to this resolution".
6. To consider and approve the amendment in Article 36 of the Articles of Association of the Company as and by way of a special resolution with or without modification, be and is hereby amended to read as under;
Resolved that the Remuneration of the fulltime working directors and Chief Executive of the Company and the remuneration of directors other than regular paid and fulltime working directors for attending meeting(s) of the Board and Committees of the Board shall from time to time be determined by the Board. Every Director other than regular paid & fulltime working director shall be entitled to a fee for attending meetings of the Board and Committees of the Board and in addition may be reimbursed any expenses incurred by him/her for attending the meeting, as set and approved by the Board.

(The statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned special businesses is attached with the Notice).

By Order of the Board

Karachi
Dated: September 30, 2020

Abdul Quadir
Company Secretary

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Tuesday, October 20, 2020 to Tuesday, October 27, 2020 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the office of our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000, at the close of business on Monday, October 19, 2020 will be treated in time for the above entitlement.
2. To attend the meeting, members are requested to register themselves by providing the following information through email at cs@tomcl.net on or before October 22, 2020.

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No./Folio No.	Cell Number	Email Address

3. Members who are registered, after the necessary verification, will be provided a video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The login facility will remain open from 10:45 a.m. till the end of the meeting.
4. A member of the Company entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her instead. The proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Corporate Office 48 hours before the meeting.
5. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification
6. Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.
7. Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of entitled shareholders. Therefore, all shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Form available on Company's website i.e. www.tomcl.net and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.
8. All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL, the applicable tax rate will be increased by hundred percent.
9. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual's status on the ATL.
10. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends may submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law (if not submitted earlier).
11. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar by first day of Book Closure.
12. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Numbers (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificate, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.
13. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and/or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
14. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Corporate Office to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such written request.
15. Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 have been placed on Company's website at www.tomcl.net.
16. Members can exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of Section 143 -145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.
17. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to the Registered Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city

I/We, _____ of _____, being a member of The Organic Meat Company Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register CDC/ Folio no. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

SECP S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016, Circulation of Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB to the shareholders (Item No. 5 of the Notice).

As per S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016, the Securities and Exchange Commission of Pakistan allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. However, the company shall furnish hard copy of the annual report / annual audited accounts free of cost to the members on demand at their registered address within one week of such demand.

For convenience of shareholders, the company shall place a Standard Request Form on its website to communicate their need of hard copies of the annual audited accounts instead of sending the same through CD/DVD/USB.

To consider and approve the amendment in Article 36 of the Articles of Association of the Company (Item No. 6 of the Notice).

The Remuneration of the fulltime working directors & the Chief Executive of the Company and the remuneration of directors other than regular paid & fulltime working directors, for attending meeting(s) of the Board and Committees of the Board are determined by the Board. In order to align the Article 36 of the Articles of Association of the Company with Section 170 of the Companies Act, 2017, the Article 36 of the Articles of Association of the Company is required to be amended.

۱۴۴۱ھ

۲۹ ستمبر
۱۶ اکتوبر
۱۷ اکتوبر
۱۸ اکتوبر
۱۹ اکتوبر
۲۰ اکتوبر
۲۱ اکتوبر
۲۲ اکتوبر
۲۳ اکتوبر
۲۴ اکتوبر
۲۵ اکتوبر
۲۶ اکتوبر
۲۷ اکتوبر
۲۸ اکتوبر
۲۹ اکتوبر
۳۰ اکتوبر
۳۱ اکتوبر



۲۹ ستمبر
۱۶ اکتوبر
۱۷ اکتوبر
۱۸ اکتوبر
۱۹ اکتوبر
۲۰ اکتوبر
۲۱ اکتوبر
۲۲ اکتوبر
۲۳ اکتوبر
۲۴ اکتوبر
۲۵ اکتوبر
۲۶ اکتوبر
۲۷ اکتوبر
۲۸ اکتوبر
۲۹ اکتوبر
۳۰ اکتوبر
۳۱ اکتوبر

۲۹ ستمبر
۱۶ اکتوبر
۱۷ اکتوبر
۱۸ اکتوبر
۱۹ اکتوبر
۲۰ اکتوبر
۲۱ اکتوبر
۲۲ اکتوبر
۲۳ اکتوبر
۲۴ اکتوبر
۲۵ اکتوبر
۲۶ اکتوبر
۲۷ اکتوبر
۲۸ اکتوبر
۲۹ اکتوبر
۳۰ اکتوبر
۳۱ اکتوبر

انتساب بنام مرحومین فخر ماری و انقلاب ماری

گجراتی اور اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار

ABC
Certified
APNS/CPNE

روزنامہ ملت
کراچی
Daily millat
یڈیشن شہزادہ ماری داؤد



دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور دستہ نشین پاسکتے اور کہتے ہیں کہ جب ہم (مرکز یوسیدہ) بٹیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا ازسر نو پیدا ہو کر انہیں گے؟ کہہ دو کہ (خواہ تم) پھر ہو جاؤ یا نہ ہو

۵۵۴۸

جلد نمبر 73 اتوار 16 مئی 1442ھ 14 اکتوبر 2020ء شمارہ نمبر 276

بذریعہ ٹوش تمام ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ دی آرکائیو میٹ سکیپی لینڈ کی دسویں سالانہ عمومی میٹنگ کا انعقاد بروز منگل مورخہ 27 اکتوبر 2020 بوقت 11:00 بجے صبح بذریعہ ویڈیو لنک ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور زیر بحث لائے جائیں گے:

۵۔ سکیم ریڈیو ایڈجسٹنگ کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 31 مئی 2016ء کو جاری ہونے والے ایس آر اے نمبر 2016/1(470) کے تحت ہدایت کے مطابق یہ جوہر دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ متعدد جٹ ٹیل خصوصی قرار دے دھوکری جائے:

[illegible]

ا۔ کھیل کے کھران کے مرکز پر مدخل 20 اکتوبر 2020ء سے بروز منگل 27 اکتوبر 2020ء (دو دن) تک ہرے گاؤں اور اس دوران کبھی کبھی متعلقہ گاؤں اور ان میں کیا جائے گا۔ شہر کے کھران پر راتر راتر (F.D. راتر اور روز) پر (یوٹیوٹ) (الطیاف) 17th صاف سائنز کے گارڈ کے آئی کی چکر و گرد و بگایا 74000، بروز منگل 19 اکتوبر 2020ء کو، شہر میں واقع اس کے مہول کے پاس کھیل کے گاؤں کے

۳۔ جرمیبرن اور جرجزڈو جیسے ان کو ضروری تعہد کے بعد کچھ اسی ای میل ایڈریس پر دیئے گئے فرانکفرام کے کسی جس کے ساتھ وہ کچھ کو ای میل کر رہے ہیں۔ لاگ ان کی کیمپ 10:45 سے 10:50 تک کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

۵۔ چینی کے شہر ہولڈرز جن کے شہر ان کے اکاؤنٹسب اکاؤنٹ بمعہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ قومی بینک کے لئے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لے کر آئیں۔

[illegible]

۱۱۔ منافع بخش آمدنی سے دودھ بولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اسی صورت میں ہوگی جب جائز ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفیکیٹ کی کاپی ایک کھوز کے پیلے دن ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دی جائے۔

۱۲۔ CDC کا کنٹریکٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اسے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اسے منفعیل ٹیکس نمبر (NTN) کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جبکہ کارپوریٹ فیکل شیئر ہولڈرز کو اسے NTN

۱۳۔ کینیڈا بھارت 2017ء کے کشمکش 244 کے مطابق ایک بار جب بینق قنرو درو کی مراصل کرکئی ہے تو کوئی درو مرانغ یا بشیر کو جواب دیا ہونے تو رعل اول او انجی ہونے کی تاریخ ہے عین سال کی مدت تک بچا ہوا ہے کئی دفعاتی حکومت کو (مرانغ کی صورت میں) منع کرانے چائیں گے SECPI (نریکل بشیر کی صورت میں) کے حوالے کر دیں گے۔ جو بشیر ہولڈرز اپنے شیئر فونیکل بشیر کو حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ہونے کو بشیر رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ درو مرانغ یا بشیر کے بارے میں کی معلومات حاصل کرکیں۔

۱۵۔ 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.tomcl.net پر رکھے گئے ہیں۔

۱۷۔ مہبران دانہ کا ٹھکانہ کی بھارت سے بھی قاعدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ کرم سالانہ منزل میٹنگ کے انعقاد سے سات دن پہلے درج ذیل کو نوٹ کریں اور ایجنسی کے جنرل ڈائریکٹر میں بھیج کر دہائیں۔

اگر ایجنسی جنرل ڈائریکٹر میں مقام پر 10 اگست 1990ء کو 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ شیئر ہولڈرز پر مشتمل مہبران سے اس میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے دانہ کا ٹھکانہ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کیلئے رضامندی حاصل کرتی ہے تو ایجنسی دانہ کا ٹھکانہ کی بھارت کا بندوبست کرے گی۔ بھارت شہر میں دستیابی سے شرط ہے۔

[illegible][illegible]

ذریعہ کیا جاتا ہے۔ کچن کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 36 کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 170 کے مطابق ردِ عمل کیلئے کچن کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 36 میں ترمیم کی ضرورت ہے۔